

The rights of Prophet Muhammed(PBUH)

SURAH AL-FATH CHAPTER#48 VERSE#8-10

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Inna arsalnaka **shahidan wamubashshiran wanatheeran**

Transliteration
8:

Indeed, We have sent you as a **witness and a bringer of good tidings and a warner**

English:8:

بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا

:Urdu 8

9

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Lituminoo biAllahi **warasoolihi watuAAazziroohu watuwaqqiroohu watusabbihoohu bukratan waaseelan**

Transliteration
9:

That you [people] may believe in Allah **and His Messenger and honor him and respect the Prophet and exalt Allah morning and afternoon.**

English:9:

تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو

:Urdu 9

10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ

عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَن يَكْفُرْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ

Inna allatheena yubayiAAoonaka innama yubayiAAoona Allaha yadu Allahi **fawqa aydeehim faman nakatha fainnama yankuthu AAala nafsihi waman awfa bima AAahada AAalayhu Allaha fasayuteehi ajran AAatheeman**

Transliteration
10:

Indeed, those who pledge allegiance to you, [O Muhammad] - they are actually pledging allegiance to Allah. The hand of Allah is over their hands. So he who breaks his word only breaks it to the detriment of himself. And he who fulfills that which he has promised Allah - He will give him a great reward.

English:10:

بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر
اللہ کا ہاتھ ہے پس جو اس عہد کو توڑ دے گا سو توڑنے کا وبال خود اسی پر ہو گا اور جو وہ
عہد پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے سو عقرب وہ اسے بہت بڑا اجر دے گا

WORD by WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(48:8:1)

innā

Indeed, We

إِنَّا
PRON ACC

ACC – accusative particle

PRON – 1st person plural object
pronoun

حرف نصب و «نا» ضمیر متصل فی محل نصب
اسم «ان»

(48:8:2)

[arsalnāka](#)

[We] have sent you

أَرْسَلْنَاكَ
PRON PRON V

V – 1st person plural (form IV) perfect
verb

PRON – subject pronoun

PRON – 2nd person masculine singular
object pronoun

فعل ماض و «نا» ضمیر متصل فی محل رفع فاعل
والکاف ضمیر متصل فی محل نصب مفعول به

(48:8:3)

[shāhidan](#)

(as) a witness

شَهِدًا
N

N – accusative masculine indefinite
active participle

اسم منصوب

(48:8:4)

[wamubashiran](#)

and (as) a bearer of
glad tidings

وَمُبَشِّرًا
N CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)

N – accusative masculine indefinite
(form II) active participle

الواو عاطفة

اسم منصوب

(48:8:5)

[wanadhīran](#)

and (as) a warner,

وَنَذِيرًا
N CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)

N – accusative masculine indefinite

noun

الواو عاطفة

اسم منصوب

(48:9:1)

[litu'minū](#)

That you may
believe

لِتُؤْمِنُوا
PRON V PRP

PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine plural (form
IV) imperfect verb, subjunctive mood

PRON – subject pronoun

اللام لام التعليل

فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في

محل رفع فاعل

(48:9:2)

[bil-lahi](#)

in Allah

بِاللَّهِ
PN P

P – prefixed preposition bi

PN – genitive proper noun → [Allah](#)

جار ومجرور

(48:9:3)

[warasūlihi](#)

and His Messenger

وَرَسُولِهِ
PRON N CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)

N – genitive masculine noun

PRON – 3rd person masculine singular
possessive pronoun

الواو عاطفة

اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر

بالإضافة

(48:9:4)

[watu'azzirūhu](#)

and (may) honor
him

وَتُعَزِّرُوهُ
PRON PRON V CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)

V – 2nd person masculine plural (form
II) imperfect verb, subjunctive mood

PRON – subject pronoun

PRON – 3rd person masculine singular
object pronoun

الواو عاطفة

فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في

محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب
مفعول به

(48:9:5)
[watuwaqqirūhu](#)
and respect him

وَتُوقِرُوهُ
PRON PRON V CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun

الواو عاطفة

فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل نصب
محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب
مفعول به

(48:9:6)
[watusabbihūhu](#)
and glorify Him

وَتُسَبِّحُوهُ
PRON PRON V CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun

الواو عاطفة

فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل نصب
محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب
مفعول به

(48:9:7)
[buk'latan](#)
morning

بُكْرَةً
T

T – accusative feminine indefinite time
adverb
ظرف زمان منصوب

(48:9:8)
wa-asīlan
and evening.

وَأَصِيلاً
T CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)
T – accusative masculine indefinite
time adverb
الواو عاطفة
ظرف زمان منصوب

(48:10:1)
inna
Indeed,

إِنَّ
ACC

ACC – accusative particle
حرف نصب

(48:10:2)
aladhīna
those who

الَّذِينَ
REL

REL – masculine plural relative
pronoun
اسم موصول

(48:10:3)
yubāyi‘ūnaka
pledge allegiance to
you

يُبَايِعُونَكَ
PRON PRON V

V – 3rd person masculine plural (form III) imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular
object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع
فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول
به

(48:10:4)
innamā
only

إِنَّمَا
PREV ACC

ACC – accusative particle
PREV – preventive particle mā
كافة ومكفوفة

(48:10:5)
yubāyi‘ūna
they pledge
allegiance

يُبَايِعُونَ
PRON V

V – 3rd person masculine plural (form III) imperfect verb
PRON – subject pronoun

فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع
فاعل

(48:10:6)

[l-laha](#)

(to) Allah.

اللَّهُ

•
PN

PN – accusative proper noun → [Allah](#)

لفظ الجلالة منصوب

(48:10:7)

[yadu](#)

(The) Hand

يَدُ

•
N

N – nominative feminine singular noun

اسم مرفوع

(48:10:8)

[l-lahi](#)

(of) Allah

اللَّهُ

•
PN

PN – genitive proper noun → [Allah](#)

لفظ الجلالة مجرور

(48:10:9)

[fawqa](#)

(is) over

فَوْقَ

•
N

N – accusative masculine noun

اسم منصوب

(48:10:10)

[aydihim](#)

their hands.

أَيْدِيهِمْ

PRON N

N – nominative feminine plural noun

PRON – 3rd person masculine plural

possessive pronoun

اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر
بالإضافة

(48:10:11)

faman

Then whoever

فَمَنْ

• •
REL REM

REM – prefixed resumption particle

REL – relative pronoun

الفاء استئنافية

اسم موصول

(48:10:12)
[nakatha](#)
breaks (his oath)

نَكَثَ
•
V

V – 3rd person masculine singular
perfect verb
فعل ماض

(48:10:13)
fa-innamā
then only

فَإِنَّمَا
• • •
PREV ACC REM

REM – prefixed resumption particle
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle mā
الفاء استئنافية
كافة ومكفوفة

(48:10:14)
[yankuthu](#)
he breaks

يَنْكُثُ
•
V

V – 3rd person masculine singular
imperfect verb
فعل مضارع

(48:10:15)
‘alā
against

عَلَى
•
P

P – preposition
حرف جر

(48:10:16)
[nafsihi](#)
himself,

نَفْسِهِ
• •
PRON N

N – genitive feminine singular noun
PRON – 3rd person masculine singular
possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر
بالإضافة

(48:10:17)
waman
and whoever

وَمَنْ
• •
REL CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول

(48:10:18)

[awfā](#)

fulfils

أَوْفَى
•
V

V – 3rd person masculine singular

(form IV) perfect verb

فعل ماض

(48:10:19)

bimā

what

بِمَا
• •
REL P

P – prefixed preposition bi

REL – relative pronoun

جار ومجرور

(48:10:20)

[‘āhada](#)

he has covenanted

عَهَدَ
•
V

V – 3rd person masculine singular

(form III) perfect verb

فعل ماض

(48:10:21)

‘alayhu

(with)

عَلَيْهِ
• •
PRON P

P – preposition

PRON – 3rd person masculine singular

object pronoun

جار ومجرور

(48:10:22)

[I-laha](#)

Allah,

اللَّهِ
•
PN

PN – accusative proper noun → [Allah](#)

لفظ الجلالة منصوب

(48:10:23)

[fasayu'thi](#)

soon He will give

him

فَسَيُؤْتِيهِ
• • • •
PRON V FUT REM

REM – prefixed resumption particle

FUT – prefixed future particle sa

V – 3rd person masculine singular

(form IV) imperfect verb

PRON – 3rd person masculine singular

object pronoun

الفاء استئنافية

حرف استقبال

فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب

مفعول به

(48:10:24)

[ajran](#)

a reward

أَجْرًا
N

N – accusative masculine indefinite

noun

اسم منصوب

(48:10:25)

[azīman](#)

great.

عَظِيمًا
ADJ

ADJ – accusative masculine singular

indefinite adjective

صفة منصوبة

Hadith to send blessing(darood) when Muhammad(PBUH) name is mentioned; rewards for sending!

SUNAN-ABI-DAWUD#1530

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا "

Narrated AbuHurayrah: The Prophet (ﷺ) said: If anyone invokes blessings on me once, Allah will bless him ten times.

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ” جو مجھ پر ایک بار درود (صلوة) بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمت نازل کرے گا

MUSLIM#408

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي ثَوْبَانَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا "

Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (ﷺ) said: He who blesses me once, Allah would bless him ten times.

Hadith Muhammed (PBUH) asked Abdullaha Ibn Masood to recite

Quran

BUKHARI#5056

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَقْرَأُ عَلَيَّ " قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ " إِنِّي أُجِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي "

Narrated `Abdullah bin Masud: The Prophet (ﷺ) said to me, "Recite Qur'an to me." I said to him. "Shall I recite (it) to you while it has been revealed to you?" He said, "I like to hear it from another person."

ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا ، ان سے ابراہیم نے بیان کیا ، ان سے عبیدہ سلمانی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا کیا میں سناؤں آپ صلی

اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی سے سننا محبوب رکھتا ہوں۔

BUKHARI#4582

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ يَحْيَى بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَقْرَأُ
فَكَيْفَ إِذَا { عَلَى " . قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ " فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي " . فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ
قَالَ " أَمْسِكْ " . فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ . { جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

Narrated `Abdullah bin Masud: Allah's Messenger (ﷺ) said to me, "Recite (of the Qur'an) for me," I said, "Shall I recite it to you although it had been revealed to you?" He said, "I like to hear (the Qur'an) from others." So I recited Surat-an- Nisa' till I reached: "How (will it be) then when We bring from each nation a witness, and We bring you (O Muhammad) as a witness against these people?" (4.41) Then he said, "Stop!" And behold, his eyes were overflowing with tears."

RIYAD-AS-SALIHIN#

وعن ابن مسعود، رضي الله عنه ، قال: قال لي النبي، صلى الله عليه وسلم، "أقرأ علي القرآن" قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: "إني أحب أن أسمع من غيري" فقرأت عليه سورة النساء، حتى جئت إلى هذه الآية (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) ((النساء: 41)) قال: "حسبك الآن" فالتفت إليه، فإذا عيناه تذرفان .

Ibn Mas'ud (May Allah be pleased with him) reported: The Prophet (ﷺ) said to me: "Recite the Qur'an to me". I said, "O Messenger of Allah! Shall I recite the Qur'an to you, when it has been revealed to you?" He (ﷺ) replied, "I love to hear it recited by others". So I recited to him a portion from Surat An-Nisa'. When I reached the Ayah: "How (will it be) then, when We bring from each nation a witness and We bring you (O Muhammad (ﷺ)) as a witness against these people?". (4:41) He (ﷺ) said, "Enough for now". When I looked at him I saw his eyes were shedding tears

Quran on bringing Muhammad(PBUH) as a witness against past nations!

SURAH An-NISSA CHAPTER#4 VERSE# 41

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

Fakayfa itha jina min kulli ommatin bishaheedin wajina bika AAala haolai Transliteration
shaheedan 41:

So how [will it be] when We bring from every nation a witness and we bring English:41:
you, [O Muhammad] against these [people] as a witness?

پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بلائینگے اور تمہیں ان پر گواہ کر کے لائیں گے Urdu 41

WORD by WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(4:41:1)

[fakayfa](#)

So how (will it
be)

فَكَيْفَ
• •
INTG REM

REM – prefixed resumption particle

INTG – interrogative noun

الفاء استئنافية
اسم استفهام

(4:41:2)

[idhā](#)

when

إِذَا
•
T

T – time adverb

ظرف زمان

(4:41:3)

[ji'nā](#)

We bring

جِئْنَا
• •
PRON V

V – 1st person plural perfect verb

PRON – subject pronoun

فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل

(4:41:4)

min

from

مِنْ
•
P

P – preposition

حرف جر

(4:41:5)

[kulli](#)

every

كُلِّ
•
N

N – genitive masculine noun

اسم مجرور

(4:41:6)

[ummatin](#)

nation

أُمَّةٍ
•
N

N – genitive feminine singular indefinite noun

اسم مجرور

(4:41:7)

[bishahīdin](#)

a witness

بِشَهِيدٍ
N P

P – prefixed preposition bi

N – genitive masculine singular indefinite noun

جار ومجرور

(4:41:8)

[waji'nā](#)

and We bring

وَجِئْنَا
PRON V CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)

V – 1st person plural perfect verb

PRON – subject pronoun

الواو عاطفة

فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل

(4:41:9)

bika

you

بِكَ
PRON P

P – prefixed preposition bi

PRON – 2nd person masculine singular personal pronoun

جار ومجرور

(4:41:10)

‘alā

against

عَلَى
P

P – preposition

حرف جر

(4:41:11)

hāulāi

these (people)

هَؤُلَاءِ
DEM

DEM – plural demonstrative pronoun

اسم إشارة

(4:41:12)

[shahīdan](#)

(as) a witness.

شَهِيدًا
٤١
N

N – accusative masculine singular indefinite noun

اسم منصوب

Quran and hadith on people falsifying “No prophet came to deliver them a message”

SURAH AL-BAQARA CHAPTER#2 VERSE#143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Wakathalika jaAAalnakum ommatan wasatan litakoonoo shuhadaa

AAala alnnasi wayakoona alrrasoolu AAalaykum shaheedan

Transliteration

143:

wama jaAAalna alqiblata allatee kunta AAalayha illa linaAAalama man yattabiAAu alrrasoola mimman yanqalibu AAala AAaqibayhi wain kanat lakabeeratan illa AAalaallatheena hada Allahu wama kana Allahu liyudeeAAa eemanakum inna Allaha bialnnasi laraoofun raheemun

And thus we have made you a just community that you will be witnesses over the people and the Messenger will be a witness over you. And We did not make the qiblah which you used to face except that We might make evident who would follow the Messenger from who would turn back on his heels. And indeed, it is difficult except for those whom Allah has guided. And never would Allah have caused you to lose your faith. Indeed Allah is, to the people, Kind and Merciful.

English:143:

اور اسی طرح ہم نے تمہیں برگزیدہ امت بنایا تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو اور ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر آپ پہلے تھے مگر اس لیے کہ ہم معلوم کریں اس کو جو رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور بے شک یہ بات بھاری ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

:Urdu 143

WORD by WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(2:143:1)

wakadhālika

And thus

وَكَذَلِكَ

DEM P REM

REM – prefixed resumption particle

P – prefixed preposition ka

DEM – masculine singular demonstrative pronoun

الواو استئنافية

جار ومجرور

V – 1st person plural perfect verb

PRON – subject pronoun

PRON – 2nd person masculine plural object pronoun

(2:143:2)

[ja'alnākum](#)

We made you

جَعَلْنَاكُمْ
PRON PRON V

فعل ماضٍ و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به

(2:143:3)

[ummatan](#)

a community

أُمَّةٌ
N

N – accusative feminine singular indefinite noun

اسم منصوب

(2:143:4)

[wasatan](#)

(of the) middle way

وَسَطًا
ADJ

ADJ – accusative indefinite adjective

صفة منصوبة

(2:143:5)

[litakūnū](#)

so that you will be

لِتَكُونُوا
PRON V PRP

PRP – prefixed particle of purpose lām

V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood

PRON – subject pronoun

اللام التعليل

فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»

(2:143:6)

[shuhadāa](#)

witnesses

شُهَدَاءَ
N

N – accusative masculine plural noun

اسم منصوب

(2:143:7)

‘alā

over

عَلَى
P

P – preposition

حرف جر

(2:143:8)

[l-nāsi](#)

the mankind,

النَّاسِ
N

N – genitive masculine plural noun

اسم مجرور

(2:143:9)

[wayakūna](#)

and will be

وَيَكُونُ
V CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)

V – 3rd person masculine singular imperfect verb,
subjunctive mood

الواو عاطفة

فعل مضارع منصوب

(2:143:10)

[l-rasūlu](#)

the Messenger

الرَّسُولُ
N

N – nominative masculine noun

اسم مرفوع

(2:143:11)

‘alaykum

on you

عَلَيْكُمْ
PRON P

P – preposition

PRON – 2nd person masculine plural object

pronoun

جار ومجرور

(2:143:12)

[shahīdan](#)

a witness.

شَهِيدًا
N

N – accusative masculine singular indefinite noun

اسم منصوب

(2:143:13)

wamā
And not

وَمَا
NEG REM

REM – prefixed resumption particle

NEG – negative particle

الواو استئنافية
حرف نفي

(2:143:14)

[ja'alnā](#)
We made

جَعَلْنَا
PRON V

V – 1st person plural perfect verb

PRON – subject pronoun

فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل

(2:143:15)

[l-qib'lata](#)
the direction of
prayer

الْقِبْلَةَ
N

N – accusative feminine noun → [Qiblah](#)

اسم منصوب

(2:143:16)

[allatī](#)
which

الَّتِي
REL

REL – feminine singular relative pronoun

اسم موصول

(2:143:17)

[kunta](#)
you were used to

كُنْتَ
PRON V

V – 2nd person masculine singular perfect verb

PRON – subject pronoun

فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»

(2:143:18)

‘alayhā
[on it]

عَلَيْهَا
PRON P

P – preposition

PRON – 3rd person feminine singular object
pronoun

جار ومجرور

(2:143:19)

[illā](#)

except

إِلَّا
RES

RES – restriction particle

أداة حصر

(2:143:20)

[lina'lama](#)

that We make
evident

لِنَعْلَمَ
V PRP

PRP – prefixed particle of purpose lām

V – 1st person plural imperfect verb, subjunctive
mood

اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب

(2:143:21)

man

(he) who

مَنْ
REL

REL – relative pronoun

اسم موصول

(2:143:22)

[yattabi'u](#)

follows

يَتَّبِعُ
V

V – 3rd person masculine singular (form VIII)

imperfect verb

فعل مضارع

(2:143:23)

[l-rasūla](#)

the Messenger

الرَّسُولَ
N

N – accusative masculine noun

اسم منصوب

(2:143:24)

mimman

from (he) who

مِمَّنْ
REL P

P – preposition

REL – relative pronoun

حرف جر

اسم موصول

(2:143:25)

[yanqalibu](#)

turns back

يَنْقَلِبُ
V

V – 3rd person masculine singular (form VII)

imperfect verb

فعل مضارع

(2:143:26)

‘alā

on

عَلَى
P

P – preposition

حرف جر

(2:143:27)

[‘aqibayhi](#)

his heels.

عَقِبَيْهِ
PRON N

N – genitive masculine dual noun → [Heel](#)

PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun

اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة

(2:143:28)

wa-in

And indeed,

وَإِن
CERT REM

REM – prefixed resumption particle

CERT – particle of certainty

الواو استئنافية

حرف تحقيق

(2:143:29)

[kānat](#)

it was

كَانَتْ
V

V – 3rd person feminine singular perfect verb

فعل ماض

(2:143:30)

[lakabīratan](#)

certainly a great

(test)

لَكَبِيرَةً
N EMPH

EMPH – emphatic prefix lām

N – accusative feminine singular indefinite noun

اللام لام التوكيد

اسم منصوب

(2:143:31)

illā

except

إِلَّا
RES

RES – restriction particle

أداة حصر

(2:143:32)

‘alā

for

عَلَى
P

P – preposition

حرف جر

(2:143:33)

alladhīna

those whom

الَّذِينَ
REL

REL – masculine plural relative pronoun

اسم موصول

(2:143:34)

hadā

guided

هَدَى
V

V – 3rd person masculine singular perfect verb

فعل ماض

(2:143:35)

l-lahū

(by) Allah.

اللَّهُ
PN

PN – nominative proper noun → [Allah](#)

لفظ الجلالة مرفوع

(2:143:36)

wamā

And not

وَمَا
NEG REM

REM – prefixed resumption particle

NEG – negative particle

الواو استئنافية

حرف نفي

(2:143:37)

[kāna](#)

will

كَانَ
•
V

V – 3rd person masculine singular perfect verb

فعل ماض

(2:143:38)

[l-lahu](#)

Allah

اللَّهُ
•
PN

PN – nominative proper noun → [Allah](#)

لفظ الجلالة مرفوع

(2:143:39)

[liyudī'a](#)

let go waste

لِيُضِيعَ
• •
V PRP

PRP – prefixed particle of purpose lām

V – 3rd person masculine singular (form IV)

imperfect verb, subjunctive mood

اللام لام التعليل

فعل مضارع منصوب

(2:143:40)

[īmānakum](#)

your faith.

إِيمَانِكُمْ
• •
PRON N

N – accusative masculine (form IV) verbal noun

PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun

اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة

(2:143:41)

inna

Indeed,

إِنَّ
•
ACC

ACC – accusative particle

حرف نصب

(2:143:42)

[l-laha](#)

Allah

اللَّهُ
•
PN

PN – accusative proper noun → [Allah](#)

لفظ الجلالة منصوب

(2:143:43)

[bil-nāsi](#)

(is) to [the]
mankind

بِالنَّاسِ
N P

P – prefixed preposition bi

N – genitive masculine plural noun

جار ومجرور

(2:143:44)

[laraūfun](#)

Full of Kindness,

لَرَءُوفٌ
N EMPH

EMPH – emphatic prefix lām

N – nominative masculine singular indefinite noun

اللام لام التوكيد

اسم مرفوع

(2:143:45)

[rahīmun](#)

Most Merciful.

رَّحِيمٌ
ADJ

ADJ – nominative masculine singular indefinite

adjective

صفة مرفوعة

Hadith that Muhammad(PBUH) and his(PBUH) followers will stand witness!

BUKHARI#3339(additional references(Bukhari 7349; 4487)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَلَغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ، أَيْ رَبِّ. فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَغَكُمْ فَيَقُولُونَ لَا، مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ. فَيَقُولُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ، فَتَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ، وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ " {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} ذَكَرَهُ .

Narrated Abu Sa'id:Allah's Messenger (ﷺ) said, "Noah and his nation will come (on the Day of Resurrection and Allah will ask (Noah), "Did you convey (the Message)?' He will reply, 'Yes, O my Lord!' Then Allah will ask Noah's nation, 'Did Noah convey My Message to you?' They will reply, 'No, no prophet came to us.' Then Allah will ask Noah, 'Who will stand a witness for you?' He will reply, 'Muhammad and his followers (will stand witness for me).' So, I and my followers will stand as witnesses for him (that he conveyed Allah's Message)." That is, (the interpretation) of the Statement of Allah: "Thus we have made you a just and the best nation that you might be witnesses Over mankind .." (2.143)

ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ، ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا ، ہم سے اعمش نے بیان کیا ، ان سے ابوصالح نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (قیامت کے دن) نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے ۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا ، کیا (میرا پیغام) تم نے پہنچا دیا تھا ؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا ، اے رب العزت ! اب اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت فرمائے گا ، کیا (نوح علیہ السلام نے) تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا ؟ وہ جواب دیں گے نہیں ، ہمارے

پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا، اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت (کے لوگ میرے گواہ ہیں) چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام خداوندی اپنی قوم تک پہنچایا تھا اور یہی مفہوم اللہ جل ذکرہ کے اس ارشاد کا ہے کہ ”اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو“۔ اور وسط کے معنی درمیانی کے ہیں۔

Quran confirming on Muhammad (PBUH) does not speak by himself!
SURAH AL-MUNAAFIQOON CHAPTER#63 VERSE#9

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

Wama yantiq AAani alhawa

Transliteration
3:

Nor does he speak from [his own] inclination.

English:3:

اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے

:Urdu 3

4

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

In huwa illa wahyun yooaha

Transliteration
4:

It is not but a revelation revealed,

English:4:

یہ تو وحی ہے جو اس پر آتی ہے

:Urdu 4

WORD by WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(53:3:1)

وَمَا

CONJ – prefixed conjunction wa (and)

wamā

NEG – negative particle

And not

NEG CONJ

الواو عاطفة

حرف نفی

(53:3:2)

yantiq

he speaks

يَنْطِقُ
V

V – 3rd person masculine singular imperfect verb

فعل مضارع

(53:3:3)

'ani

from

عَنْ
P

P – preposition

حرف جر

(53:3:4)

l-hawā

the desire.

الْهَوَى
N

N – genitive masculine noun

اسم مجرور

(53:4:1)

in

Not

إِنَّ
NEG

NEG – negative particle

حرف نفي

(53:4:2)

huwa

it

هُوَ
PRON

PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun

ضمير منفصل

(53:4:3)

illā

(is) except

إِلَّا
RES

RES – restriction particle

أداة حصر

(53:4:4)

[wahyun](#)

a

revelation

وَحْيٌ
N

N – nominative masculine indefinite noun

اسم مرفوع

(53:4:5)

[yūhā](#)

revealed,

يُوحَى
V

V – 3rd person masculine singular (form IV) passive imperfect verb, subjunctive mood

فعل مضارع مبني للمجهول منصوب

Hadith for the denier of hadith!

SUNAN-ABI-DAWUD#4605

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، قَالَا

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَّكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ " .

Narrated AbuRafi':The Prophet (ﷺ) said: Let me not find one of you reclining on his couch when he hears something regarding me which I have commanded or forbidden and saying: We do not know. What we found in Allah's Book we have followed.

ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ” میں تم میں سے کسی کو اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرے احکام اور فیصلوں میں سے کوئی حکم آئے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن سے روکا ہے اور وہ یہ کہے : یہ ہم نہیں جانتے ، ہم نے تو اللہ کی کتاب میں جو کچھ پایا بس اسی کی پیروی کی ہے اے۔“

JAMI-AT-TIRMIDHI#2663

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدَّرِ، وَسَالِمِ أَبِي

النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وَغَيْرِهِ، رَفَعَهُ قَالَ " لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَّكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ " . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ الْمُكَدَّرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَسَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إِذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الْإِنْفِرَادِ بَيَّنَّ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدَّرِ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ وَإِذَا جَمَعَهُمَا رَوَى هَكَذَا . وَأَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمُهُ أَسْلَمٌ .

Narrated 'Ubaidullah bin Abu Rafi:from Abu Rafi' and others, from the Prophet (ﷺ) who said: "Let me not find one of you reclining on his couch when a command I ordered, or a prohibition from me comes to him, and he says: 'I do not know. What we find in the Book of Allah, we follow it.'"

JAMI-AT-TIRMIDHI#2664(Hassan)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرِ اللَّحْمِيِّ، عَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِنٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ خَلَالًا

اسْتَحْلَانَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمَ اللَّهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ " . قَالَ أَبُو عِيَسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

Narrated Al-Miqdam bin Ma'dikarib:that the Messenger of Allah (ﷺ) said: "Lo! Soon a Hadith from me will be conveyed to a man, while he is reclining on his couch, and he says: 'Between us and you is Allah's Book. So whatever we find in it that is lawful, we consider lawful, and whatever we find in it that is unlawful, we consider it unlawful.' Indeed whatever the Messenger of Allah (ﷺ) made unlawful, it is the same as what Allah made unlawful."

Hadith Muhammad(PBUH) is the Imam of Mankind and Jinn

SUNAN-IBN-MAJAH#4450

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ وَلَوْ أَنَّ الْحَمْدَ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ "

Narrated from Abu Sa'eed that the Messenger of Allah (ﷺ) said: "I am the leader of the sons of Adam, and it is no boast. I will be the first one for whom the earth will be split open on the Day of Resurrection, and it is no boast. I will be the first to intercede and the first whose intercession will be accepted, and it is no boast. The banner of praise will be in my hand on the Day of Resurrection, and it is no boast."

Quran "Muhammad(PBUH) is not a father of anyone and is the seal of NABI"!

SURAH AL-AHAZAAAB CHAPTER#33 VERSE#40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

Ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasoola Allahi
wakhataama alnabiyyeena wakana Allahu bikulli shayin AAaleeman

Transliteration
40:

Muhammad is not the father of [any] one of your men, but [he is] the
Messenger of Allah and last of the prophets. And ever is Allah, of all things,
Knowing.

English: 40:

محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر

:Urdu 40

ہیں اور اللہ ہر بات جانتا ہے

WORD by WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(33:40:1)

mā

Not

مَا
•
NEG

NEG – negative particle

حرف نفي

(33:40:2)

[kāna](#)

is

كَانَ
•
V

V – 3rd person masculine singular perfect verb

فعل ماض

(33:40:3)

muḥammadun

Muhammad

مُحَمَّدٌ
•
PN

PN – nominative proper noun → [Muhammad](#)

اسم علم مرفوع

(33:40:4)

[abā](#)

(the) father

أَبَا
•
N

N – genitive masculine singular noun

اسم مجرور

(33:40:5)

[ahadin](#)

(of) anyone

أَحَدٍ
•
N

N – genitive masculine indefinite noun

اسم مجرور

(33:40:6)

min

of

مِنْ
•
P

P – preposition

حرف جر

(33:40:7)

[rijālikum](#)

your men

رِجَالِكُمْ
PRON N

N – genitive masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive
pronoun

اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة

(33:40:8)

walākin

but

وَلَكِنْ
AMD CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)

AMD – amendment particle

الواو عاطفة

حرف استدراك

(33:40:9)

[rasūla](#)

(he is the)

Messenger

رَسُولٍ
N

N – accusative masculine noun

اسم منصوب

(33:40:10)

[l-lahi](#)

(of) Allah

اللَّهِ
PN

PN – genitive proper noun → [Allah](#)

لفظ الجلالة مجرور

(33:40:11)

[wakhātama](#)

and Seal

وَخَاتَمٍ
N CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)

N – accusative masculine noun

الواو عاطفة

اسم منصوب

(33:40:12)

[l-nabiyīna](#)

(of) the Prophets.

النَّبِيِّينَ
N

N – genitive masculine plural noun

اسم مجرور

(33:40:13)
[wakāna](#)
And Allah is

وَكَانَ
V CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض

(33:40:14)
[l-lahu](#)
And Allah is

اللَّهُ
PN

PN – nominative proper noun → [Allah](#)
لفظ الجلالة مرفوع

(33:40:15)
[bikulli](#)
of every

بِكُلِّ
N P

P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور

(33:40:16)
[shayin](#)
thing

شَيْءٍ
N

N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور

(33:40:17)
[‘alīman](#)
All-Knower.

عَلِيمًا
ADJ

ADJ – accusative masculine singular indefinite
adjective
صفة منصوبة

Hadith about thirty false prophets after the death of Muhammad(PBUH)!

SUNAN-ABI-DAWUD#4333;4334

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -
- عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ دَجَالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ " .

Narrated Abu Hurayrah: The Prophet (ﷺ) said: The Last Hour will not come before there come forth thirty Dajjals (fraudulents), everyone presuming himself that he is an apostle of Allah

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو گی جب تک تیس دجال ظاہر نہ ہو جائیں، وہ سب یہی کہیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں“

JAMI-AT-TIRMIDHI#2219

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

Thawban narrated that the Messenger of Allah(s.a.w) said:"The Hour shall not be established until tribes of my Ummah unite with the idolaters, and until they worship idols. And indeed there shall be thirty imposters in my Ummah,each of them claiming that he is a Prophet. And I am the last of the Prophets, there is no Prophet after me."

Hadith Innovation(Bidaath) is not part of religion!

SUNAN-IBN-MAJAH#14

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَانَ الْعُثْمَانِيِّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " .

Aishah narrated that:The Messenger of Allah (ﷺ) said: "Whoever innovates something in this matter of ours (i.e. Islam) that is not part of it, will have it rejected."

MUSLIM#1366

وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحَدَّثَ فِيهَا حَدَثًا - قَالَ - ثُمَّ قَالَ لِي هَذِهِ شَدِيدَةٌ " مَنْ أَحَدَّثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " . قَالَ فَقَالَ ابْنُ أَنَسٍ أَوْ آوَى مُحَدِّثًا .

Asim reported:I asked Anas b. Malik whether Allah's Messenger (ﷺ) had declared Medina as sacred. He said: Yes. (the area) between so and so. He who made any innovation in it, and further said to me: It is something serious to make any innovation in it (and he who does it) there is upon him the curse of Allah, and that of the angels and of all the people, Allah will not accept from him on the Day of Resurrection either obligatory acts or the surpererogatory acts. Ibn Anas said: Or he accommodates an innovator.

MUSLIM#1718a

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ الْهَلَالِيِّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ سَعْدِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " .

A'isha reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:He who innovates things in our affairs for which there is no valid (reason) (commits sin) and these are to be rejected.

SUNAN-ABI-DAWUD#4530

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَادٍ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْنَا هَلْ عَهْدُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا - قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ - فَأَخْرَجَ كِتَابًا - وَقَالَ أَحْمَدُ كِتَابًا مِنْ قَرَابِ سَيْفِهِ - فَإِذَا فِيهِ " الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُوا دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَّا لَا يُفْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا دُونُ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحَدَّثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحَدَّثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدِّثًا فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " . قَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا .

Narrated Qays ibn Abbad :I and Ashtar went to Ali and said to him: Did the Messenger of Allah (ﷺ) give you any instruction about anything for which he did not give any instruction to the people in general?He said: No, except what is contained in this document of mine. Musaddad said: He then took out a document. Ahmad said: A document from the sheath of his sword. It contained: The lives of all Muslims are equal; they are one hand against others; the lowliest of them can guarantee their protection. Beware, a Muslim must not be killed for an infidel, nor must one who has been given a covenant be killed while his covenant holds. If anyone introduces an innovation, he will be responsible for it. If anyone introduces an innovation or gives shelter to a man who introduces an innovation (in religion), he is cursed by Allah, by His angels, and by all the people.

قیس بن عباد سے کہتے ہیں کہ میں اور اشتر دونوں علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ہم نے کہا : کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص بات بتائی ہے جو عام لوگوں کو نہ بتائی ہو ؟ وہ بولے : نہیں ، سوائے اس چیز کے جو میری اس کتاب میں ہے ۔ مسدد کہتے ہیں : پھر انہوں نے ایک کتاب نکالی ، احمد کے الفاظ یوں ہیں اپنی تلوار کے غلاف سے ایک کتاب (نکالی) اس میں یہ لکھا تھا : سب مسلمانوں کا خون برابر ہے اور وہ غیروں کے مقابل (باہمی نصرت و معاونت میں) گویا ایک ہاتھ ہیں ، اور ان میں کا ایک ادنیٰ بھی ان کے امان کا پاس و لحاظ رکھے گا ۱- ، آگاہ رہو ! کہ کوئی مومن کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا ، اور نہ ہی کوئی ذمی معاہدہ جب تک وہ معاہدہ ہے قتل کیا جائے گا ، اور جو شخص کوئی نئی بات نکالے گا تو اس کی ذمے داری اسی کے اوپر ہو گی ، اور جو نئی بات نکالے گا ، یا نئی بات نکالنے والے کسی شخص (بدعتی) کو پناہ دے گا تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ۔ مسدد کہتے ہیں : ابن ابی عروبہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک کتاب نکالی ۔

Hadith on abusing Companions of Muhammad(PBUH){ Sahaba r.a}!

BUKHARI#3673

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ ذَكَوَانَ،

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ " . تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ.

Narrated Abu Sa'id:The Prophet (ﷺ) said, "Do not abuse my companions for if any one of you spent gold equal to Uhud (in Allah's Cause) it would not be equal to a Mud or even a half Mud spent by one of them."

ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا ، ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے اعمش نے بیان کیا ، کہا میں نے ذکوان سے سنا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو ۔ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا (اللہ کی راہ میں) خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد گلہ کے برابر بھی ہو سکتا اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر ۔ شعبہ کے ساتھ اس حدیث کو جریر ، عبداللہ بن داود ، ابو معاویہ اور محاضر نے بھی اعمش سے روایت کیا ہے ۔

SUNAN-IBN-MAJAH#166

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا

وَكَيْعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ " .

It was narrated that Abu Hurairah said:"The Messenger of Allah said: 'Do not revile my Companions, for by The One in Whose Hand is my soul! If any one of you were to spend the

equivalent of Mount Uhud in gold, it would not equal a Mudd spent by anyone of them, nor even half a Mudd."

JAMI-AT-TIRMIDHI#4234

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ،
عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ ذُكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَسُبُّوا
أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ " . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ " نَصِيفَهُ " يَعْنِي نِصْفَ الْمُدِّ .

Narrated Abu Sa'eed Al-Khudri:that the Messenger of Allah (ﷺ) said: "Do not abuse my Companions, for by the One in Whose Hand is my soul! If one of you were to spend gold the life of Uhud, it would not equal a Mudd - nor half of it - of one of them."

Hadith don't take oath other than Allah(SWT)!

BUKHARI#2679

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، قَالَ ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيَخْلَفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ " .

Narrated `Abdullah:The Prophet (ﷺ) said, "Whoever has to take an oath should swear by Allah or remain silent." (i.e. He should not swear by other than Allah.)

ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے جویریہ نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ نافع نے حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہے
تو اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائے ، ورنہ خاموش رہے ۔

Hadith Limitations on admiring Muhammad(PBUH)!

BUKHARI#3445

حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ الرَّهْرِيَّ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "
لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ " .

Narrated `Umar:I heard the Prophet (ﷺ) saying, "Do not exaggerate in praising me as the Christians praised the son of Mary, for I am only a Slave. So, call me the Slave of Allah and His Apostle."

ہم سے حمیدی نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ، کہا کہ میں نے زہری سے سنا ، وہ بیان کرتے تھے کہ
مجھے عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ، انہوں نے حضرت عمر رضی
اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ، آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے
سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کو نصاریٰ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے ۔ میں تو
صرف اللہ کا بندہ ہوں ، اس لئے یہی کہا کرو (میرے متعلق) کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ۔

Quran “Did Muhammad(PBUH) had the knowledge of unseen or had he seen ALLAH(SWT)!”

SURAH AL-An’aam CHAPTER#6 VERSE# 103

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

La tudrikuhu alabsaru wahuwa yudriku alabsara wahuwa allateefu alkhabeeru Transliteration 103:

Vision perceives Him not, but He perceives [all] vision; and He is the Subtle, the Acquainted. English: 103:

اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے اور وہ نہایت باریک بین خبردار :Urdu 103

بے

WORD by WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(6:103:1)

lā

Not (can)

لَا
•
NEG

NEG – negative particle

حرف نفی

(6:103:2)

[tud'rikuhu](#)

grasp Him

تُدْرِكُهُ
•
PRON V

V – 3rd person feminine singular (form IV) imperfect verb

PRON – 3rd person masculine singular object pronoun

فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به

(6:103:3)

[l-absāru](#)

the visions

الْأَبْصَارُ
•
N

N – nominative masculine plural noun

اسم مرفوع

(6:103:4)

wahuwa

but He

وَهُوَ
•
PRON REM

REM – prefixed resumption particle

PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun

الواو استئنافية

ضمير منفصل

(6:103:5)

[yud'riku](#)

(can) grasp

يُدْرِكُ
V

V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع

(6:103:6)

[l-absāra](#)

(all) the vision,

الْأَبْصَارُ
N

N – accusative masculine plural noun

اسم منصوب

(6:103:7)

wahuwa

and He (is)

وَهُوَ
PRON REM

REM – prefixed resumption particle

PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun

الواو استئنافية

ضمير منفصل

(6:103:8)

[l-latīfu](#)

the All-Subtle,

اللَّطِيفُ
N

N – nominative masculine singular noun

اسم مرفوع

(6:103:9)

[l-ghabīru](#)

the All-Aware.

الْغَابِرُ
ADJ

ADJ – nominative masculine singular adjective

صفة مرفوعة

SURAH LUQMAN CHAPTER#31 VERSE#34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Inna Allaha AAindahu AAilmu alssaAAati wayunazzilu alghaytha wayaAAalamu Transliteration
ma fee alarhami wama tadree nafsun matha taksibu ghadan wama tadree nafsun 34:

biayyi ardin tamootu inna Allaha AAaleemun khabeerun

Indeed, Allah [alone] has knowledge of the Hour and sends down the rain and knows what is in the wombs. And no soul perceives what it will earn tomorrow, and no soul perceives in what land it will die. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted.

English: 34:

بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مینہ برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے

:Urdu 34

WORD by WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(31:34:1)

inna

Indeed,

إِنَّ
•
ACC

ACC – accusative particle

حرف نصب

(31:34:2)

I-laha

Allah,

اللَّهُ
•
PN

PN – accusative proper noun → [Allah](#)

لفظ الجلالة منصوب

(31:34:3)

'indahu

with Him

عِنْدَهُ
•
PRON LOC

LOC – accusative location adverb

PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun

ظرف مكان منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة

(31:34:4)

'il'mu

(is the) knowledge

عِلْمٌ
•
N

N – nominative masculine noun

اسم مرفوع

(31:34:5)

[l-sā'ati](#)

(of) the Hour

السَّاعَةِ
N

N – genitive feminine noun

اسم مجرور

(31:34:6)

[wayunazzilu](#)

and He sends
down

وَيُنزِلُ
V CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)

V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect

verb

الواو عاطفة

فعل مضارع

(31:34:7)

[l-ghaytha](#)

the rain,

الْغَيْثِ
N

N – accusative masculine noun → [Rain](#)

اسم منصوب

(31:34:8)

[waya'lamu](#)

and knows

وَيَعْلَمُ
V CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)

V – 3rd person masculine singular imperfect verb

الواو عاطفة

فعل مضارع

(31:34:9)

mā

what

مَا
REL

REL – relative pronoun

اسم موصول

(31:34:10)

fī

(is) in

فِي
P

P – preposition

حرف جر

(31:34:11)

[l-arhāmi](#)

the wombs.

الْأَرْحَامِ
N

N – genitive masculine plural noun

اسم مجرور

(31:34:12)

wamā

And not

وَمَا
NEG CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)

NEG – negative particle

الواو عاطفة

حرف نفي

(31:34:13)

[tadrī](#)

knows

تَدْرِي
V

V – 3rd person feminine singular imperfect verb

فعل مضارع

(31:34:14)

[nafsun](#)

any soul

نَفْسٌ
N

N – nominative feminine singular indefinite noun

اسم مرفوع

(31:34:15)

mādhā

what

مَاذَا
INTG

INTG – interrogative noun

اسم استفهام

(31:34:16)

[taksibu](#)

it will earn

تَكْسِبُ
V

V – 3rd person feminine singular imperfect verb

فعل مضارع

(31:34:17)

[ghadan](#)
tomorrow,

غَدًا
•
N

N – accusative masculine indefinite noun

اسم منصوب

(31:34:18)

wamā
and not

وَمَا
• •
NEG CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)

NEG – negative particle

الواو عاطفة

حرف نفي

(31:34:19)

[tadrī](#)
knows

تَدْرِي
•
V

V – 3rd person feminine singular imperfect verb

فعل مضارع

(31:34:20)

[nafsun](#)
any soul

نَفْسٌ
•
N

N – nominative feminine singular indefinite noun

اسم مرفوع

(31:34:21)

bi-ayyi
in what

بِأَيِّ
• •
N P

P – prefixed preposition bi

N – genitive noun

جار ومجرور

(31:34:22)

[ardīn](#)
land

أَرْضٍ
•
N

N – genitive feminine indefinite noun

اسم مجرور

(31:34:23)

[tamūtu](#)
it will die.

تَمُوتُ
·
V

V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع

(31:34:24)

inna
Indeed,

إِنَّ
·
ACC

ACC – accusative particle
حرف نصب

(31:34:25)

[I-laha](#)
Allah

اللَّهِ
·
PN

PN – accusative proper noun → [Allah](#)
لفظ الجلالة منصوب

(31:34:26)

[‘alīmun](#)
(is) All-Knower

عَلِيمٌ
·
ADJ

ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة

(31:34:27)

[khabīrun](#)
All-Aware.

خَبِيرٌ
·
ADJ

ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة

Hadith Did Muhammad(PBUH) saw ALLAH(SWT) or had the knowledge of unseen!

BUKHARI#7380

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ
لَا تُدْرِكُهُ {عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ
وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. {الْأَبْصَارُ

Narrated Masruq: `Aisha said, "If anyone tells you that Muhammad has seen his Lord, he is a liar, for Allah says: 'No vision can grasp Him.' (6.103) And if anyone tells you that Muhammad has seen the Unseen, he is a liar, for Allah says: "None has the knowledge of the Unseen but Allah."

ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ، ان سے اسماعیل نے بیان کیا ، ان سے شعبی نے بیان کیا ، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتیں اور جو کوئی کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو غلط کہتا ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ۔

BUKHARI#4778 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ بِنِ عَمْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} خَمْسٌ " ثُمَّ قَرَأَ .

Narrated `Abdullah bin `Umar: The Prophet (ﷺ) said, "The keys of the Unseen are five." And then he recited: 'Verily, the knowledge of the Hour is with Allah (alone).'

BUKHARI#1039 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَّا يَكُونُ فِي غَدٍ، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَّا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ، وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَادَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ " .

Narrated Ibn `Umar: Allah's Messenger (ﷺ) (p.b.u.h) said, "Keys of the unseen knowledge are five which nobody knows but Allah . . . nobody knows what will happen tomorrow; nobody knows what is in the womb; nobody knows what he will gain tomorrow; nobody knows at what place he will die; and nobody knows when it will rain."

ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی پانچ کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے ، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے ، کل کیا کرنا ہو گا ، اس کا کسی کو علم نہیں ۔ نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اسے موت کس جگہ آئے گی اور نہ کسی کو یہ معلوم کہ بارش کب ہو گی ۔

BUKHARI#4627 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنزِلُ الْعَيْثُ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ " .

Narrated `Abdullah: Allah's Messenger (ﷺ) said, "The key of the Unseen are five: Verily with Allah (Alone) is the knowledge of the Hour He sends down the rain and knows what is in the wombs. No soul knows what it will earn tomorrow, and no soul knows in what land it will die. Verily, Allah is All-Knower, All-Aware." (31.34)

BUKHARI#7279 حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ " .

Narrated Ibn `Umar: The Prophet (ﷺ) said, "The keys of the unseen are five and none knows them but Allah: (1) None knows (the sex) what is in the womb, but Allah; (2) None knows what will happen tomorrow, but Allah; (3) None knows when it will rain, but Allah; (4) None knows where he will die, but Allah (knows that); (5) and none knows when the Hour will be established, but Allah."

ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا ، انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - غیب کی پانچ کنجیاں ہیں ، جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا - اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے ، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہو گا ، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی - اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہو گی -

Quran on declining the Ayath or hadith in the name of MADHAB **SURAH AL-HUJURAATH CHAPTER# 49 VERSE# 1**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ya ayyuha allatheena amanoo la tuqaddimoo bayna yadayi Allahi warasoolihi Transliteration
waittaqoo Allaha inna Allaha sameeAAun AAaleemun 1:

O you who have believed, do not put [yourselves] before Allah and His Messenger but fear Allah. Indeed, Allah is Hearing and Knowing. English: 1:

اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پہل نہ کرو اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے :Urdu 1

WORD by WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(49:1:1)
yāayyuhā
O you who believe!

يَا أَيُّهَا
N VOC

VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع

(49:1:2)
alladhīna
O you who believe!

الَّذِينَ
REL

REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول

(49:1:3)
āmanū
O you who believe!

آمَنُوا
PRON V

V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect
verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

(49:1:4)

lā

(Do) not

لَا
•
PRO

PRO – prohibition particle

حرف نهى

(49:1:5)

tuqaddimū

put (yourselves)

forward -

تُقَدِّمُوا
• •
PRON V

V – 2nd person masculine plural (form II)

imperfect verb, jussive mood

PRON – subject pronoun

فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

(49:1:6)

bayna

before Allah

بَيْنَ
•
LOC

LOC – accusative location adverb

ظرف مكان منصوب

(49:1:7)

yadayi

before Allah

يَدَيِ
•
N

N – nominative feminine dual noun

اسم مرفوع

(49:1:8)

l-lahi

before Allah

اللَّهِ
•
PN

PN – genitive proper noun → Allah

لفظ الجلالة مجرور

(49:1:9)

warasūlihi

and His Messenger

وَرَسُولِهِ
• • •
PRON N CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)







N – genitive masculine noun

PRON – 3rd person masculine singular possessive

pronoun

الواو عاطفة

اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة

(49:1:10) <u>wa-ittaqū</u> and fear Allah.		<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb PRON – subject pronoun الواو عاطفة فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل</p>
(49:1:11) <u>l-laha</u> and fear Allah.		<p>PN – accusative proper noun → <u>Allah</u> لفظ الجلالة منصوب</p>
(49:1:12) inna Indeed,		<p>ACC – accusative particle حرف نصب</p>
(49:1:13) <u>l-laha</u> Allah		<p>PN – accusative proper noun → <u>Allah</u> لفظ الجلالة منصوب</p>
(49:1:14) <u>samī'un</u> (is) All-Hearer,		<p>ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective صفة مرفوعة</p>
(49:1:15) <u>'alīmun</u> All-Knower.		<p>ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective صفة مرفوعة</p>